



CENTRE FOR PUBLIC POLICY
AND GOVERNANCE



FORMAN CHRISTIAN COLLEGE
(A CHARTERED UNIVERSITY)

Juvenile Justice System Act (JJSA) 2018

Training Manual



Juvenile Justice System Act (JJSA) 2018

TRAINING MANUAL

BY

Arfeen Naeem Baig
Dr. Rabia Chaudhry

Acknowledgement

I wish to thank the Director, Dr. Saeed Shafqat, whose encouragement, guidance, and support from the initial to the final level enabled me to develop an understanding of the subject.

I wish to thank Arfeen Naeem Baig, my Research Associate for developing this manual for the training sessions for our stakeholders.

I extend my heartfelt appreciation to the participants of the Training Sessions representing diverse departments including the Directorate of Probation & Parole Punjab, Social Welfare Bait-ul-Mal, Prosecution Department, Police Department, and the law graduates from Kinnaird College for Women University and Lahore School of Law and our Master Trainer Advocate Waheed Ahmad Chaudhry for his efforts. Their engagement and expertise have been pivotal in shaping the practical aspects of this study.

Context

This manual is developed as a part of the capacity building measure for the Project “*Juvenile Justice System Act (JJSA) 2018: Assessment, Analysis and Capacity Building*”. It has two broad objectives: First to provide comprehensive guidance and disseminate knowledge on the Juvenile Justice System Act (JJSA) 2018 for relevant departments of Punjab. Second, to assist concerned government departments in understanding their roles and responsibilities, promoting effective collaboration, and ensuring the seamless execution of the juvenile justice system in Punjab.

Purpose

- **Educate stakeholders:** This manual aims to provide a detailed understanding of the JJSA, its provisions, and the principles underlying juvenile justice system. It seeks to equip all stakeholders with the necessary knowledge to effectively carry out their respective duties.
- **Promote consistency:** By providing standardized information and guidelines, this manual promotes consistency in the interpretation and application of the JJSA across different departments. It helps establish a communal understanding and approach among stakeholders.
- **Enhance collaboration:** Effective implementation of the juvenile justice system requires close collaboration between various departments. This manual emphasizes the importance of interdepartmental cooperation, clarifies roles, and highlights areas of shared responsibility.

Target Audience

It is primarily designed for the following six departments and their personnel involved in the juvenile justice system:

- **Probation & Parole Department:** Probation officers, counsellors, and professionals responsible for the supervision and rehabilitation of juvenile offenders. Parole officers and staff engaged in the release and reintegration of juvenile offenders into society.
- **Prosecution Department:** Prosecutors and legal professionals involved in handling cases related to juvenile offenders.
- **Judicial Department:** Judges, magistrates, and court staff responsible for adjudicating cases involving juvenile offenders.



- **Police Department:** Police officers, investigators, and personnel involved in the apprehension, investigation, and detention of juvenile offenders.
- **Prison Department:** Prison officers, administrators, and staff responsible for the custody and welfare of juvenile offenders in correctional facilities.
- **Social Welfare Department:** Social welfare officers to facilitate probation officer in creation of the investigation report of the juvenile.

Structure of the Manual

This training manual is organized into various sections to facilitate comprehensive learning and understanding of the JJSA 2018:

- **Overview of the JJSA:** This section introduces the act, its objectives, and key principles. It explains the rationale behind a separate justice system for juveniles and highlights the rights and protections accorded to them.
- **Roles and Responsibilities:** This section outlines the specific roles and responsibilities of each stakeholder department. It defines the roles and responsibilities associated with probation, parole, prosecution, judicial, police, social welfare department and prison departments, emphasizing collaboration and coordination among them.
- **Procedural Guidelines:** This section presents a step-by-step overview of the juvenile justice process, including arrest, investigation, detention, bail, trial, rehabilitation, and reintegration. It explains the legal requirements, timelines, and decision-making processes involved in each stage.

Training Methodology

This manual adopts a participatory training approach, combining theoretical concepts with practical exercises, case discussions, and group activities. It encourages active engagement, knowledge sharing, and collaborative learning among stakeholders. The trainer is encouraged to adapt and customize the content to suit the specific needs and requirements of their respective departments.

Definition of a Child

- The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is ambiguous in defining the term “child” but has a few special provisions related to children. For example,
 - Article 11 prohibits child labor under the age of 14 years.
 - Article 25-A, children up to age 16 years have a right to free and compulsory education

“Child” in Pakistani Law

The following Acts define a “Child” in Pakistani law as

- **The Guardians & Wards Act, 1890:** “minor” means a person who, under the provisions of the Majority Act, 1875, is to be deemed not to have attained his Majority¹.”
- **Child Marriages Restraint Act, 1929:** According to this law, “child” means a person who, if a male, is under eighteen years of age, and if a female, is under sixteen (16) years of age²
- **Sindh Child Marriage Restraint Act, 2013:** Sindh has amended and removed the discrimination, defining “child” as a person, male or female, who is under 18 years of age for the purpose of marriage³.
- **The Prevention of Trafficking in Persons Act, 2018:** “child” means a person under eighteen (18) years of age.⁴
- **The National Commission on the Rights of the Child Act, 2017:** “Any person below the age of eighteen (18) years”.⁵
- **The Punjab Destitute and Neglected Children Act, 2004:** The Punjab Destitute and Neglected Children Act, 2004 “Child” means a natural person who has not attained the age of eighteen (18) years.⁶

Overview of the JJSA

In 2018, Parliament enacted the Juvenile Justice System Act, 2018 (JJSA), which repealed the JJSO, in 2000. It is an improvement in the law, aiming to empower the State to make special

¹ The Guardians & Wards Act, 1890, Section 3 (1)

² Child Marriages Restraint Act, 1929, Section 2(a)

³ Sindh Child Marriage Restraint Act, 2013 Session 2(a)

⁴ The Prevention of Trafficking in Persons Act, 2018, Section 1(a)

⁵ The National Commission on the Rights of the Child Act, 2017, Section 2(b)

⁶ The Punjab Destitute and Neglected Children Act, 2004, Section 3(1)(e).



provisions for the legal protection of child offenders, and seeking to ensure that the new law overrides previous contrary or conflicting provisions, as stated in Articles 23 and 25 of the JJSA, which the Juvenile Justice System Ordinance (JJSO) 2000 did not do.

For the purposes of this Act, a “child” is a person who has not attained the age of 18 years⁷.

A “juvenile” means a child who may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.⁸

The most noteworthy sections of the JJSA are:

- Determination of the Child’s age
- Setting a higher minimum age of criminal responsibility
- Disposal of cases through diversion
- Formation of Juvenile Justice Committees (JJsCs)
- Setting up Juvenile Rehabilitation Centres (JRCs).

The JJSA 2018 provides for improved and strengthened criminal justice for children, as well as provisions for the subsequent social integration of juvenile offenders.

The JJSA states that

Every juvenile offender or survivor of a crime shall have the right of legal assistance at the expense of the State. He/she must be informed of his/her rights and must be provided legal assistance within 24 hours.

Soon after being apprehended and taken into custody by the police, a juvenile offender will be kept only temporarily for investigations, and only after obtaining remand from the Juvenile Court. All juvenile offenders will be kept separately from police stations or lockups or accused adults in custody.”

⁷ Juvenile Justice system act 2018, Section 2(b)

⁸ Juvenile Justice system act 2018, Section 2(h).

Objectives:

- **Rehabilitation and Reintegration:** The Act aims to facilitate the rehabilitation and reintegration of juvenile offenders back into society through appropriate interventions and support systems.
- **Protection of Juvenile Rights:** It seeks to safeguard the rights of juveniles, including their right to a fair trial, protection from physical and psychological harm, and access to education, healthcare, and social services.
- **Prevention of Recidivism:** The act strives to prevent the recurrence of juvenile offenses by addressing the underlying causes and risk factors through comprehensive interventions and targeted programs.
- **Accountability and Restorative Justice:** It promotes a balanced approach to accountability, emphasizing restorative justice principles that encourage dialogue, repair of harm, and the involvement of victims, offenders, and the community.

Fundamental Principles

Best Interests of the Child: The Act places the best interests of the child as a primary consideration in all decisions and actions related to the juvenile justice system. This principle ensures that the well-being, safety, and development of the child remain paramount.

As provided under Section 2(a), the best interests of the child means that any decisions regarding the child must be made with the aim to fulfil his:

- Basic rights and needs
- Identity
- Social well-being
- Physical, emotional, and psychological development
- **Non-Discrimination and Equality:** The Act prohibits any form of discrimination based on gender, race, religion, social status, or any other grounds. It emphasizes the equal treatment and protection of all juveniles within the justice system.
- **Proportionality and Individualization:** The Act emphasizes the need for individualized responses and measures that are proportionate to the gravity of the offense and the




circumstances of the juvenile offender. It discourages overly punitive or harsh measures.

- **Minimum Use of Deprivation of Liberty:** The act promotes the minimum use of detention and deprivation of liberty for juveniles, considering it as a measure of last resort. It encourages alternatives to incarceration, such as diversion programs, community-based rehabilitation, and restorative justice practices.
- **Privacy and Confidentiality:** The act ensures the protection of the privacy and confidentiality of juvenile offenders throughout the justice process. It restricts the disclosure of their personal information and records, except when necessary for legal proceedings or their best interests.



JJSA Proceedings Step-by-step



Roles and Responsibilities

Role of the Lawyer to inform the accused juvenile about his/her rights

- The juvenile accused should be aware and well-informed about his/her legal rights. A lawyer appointed by the Juvenile Court shall inform the accused of all his/her available rights immediately after his/her arrest.
- The juvenile accused has a right to legal assistance at the State's expense, an experienced lawyer is to be provided by the court if the juvenile accused is not legally represented.
- As soon as the juvenile accused is arrested, the designated advocate shall ensure that the investigation officer informs the Juvenile's parents or guardian(s) about such arrest.
- The Advocate must ensure that the juvenile is not to be detained with adults in any circumstances and that he/she may be detained only in an 'observation home.'
- The juvenile should not be handcuffed or fettered while detained or brought to court.
- The juvenile is informed that if he/she is a first offender and if found guilty, he/she would be offered diversion options.
- The juvenile is assisted by the Social Welfare Officer and Probation Officer who must contribute to his/her mental development and enable him/her to survive.

Role of Police if Child is a victim

- Deal with the child in plain clothes and not in a police uniform.
- Keep the victim away from the accused and take him/her for medical examination, if it is required.
- Do not keep the victim in a Police Station overnight under any circumstance; Arrange an interpreter, if needed.
- Record the child victim's statement "verbatim," do not change or interpret his/her words.
- While recording the victim's statement, the investigation officer shall ensure that the victim is made comfortable before recording it.
- The victim's statement may be recorded at the victim's residence or any other place where the victim can make his/her statement freely and without fear.
- The victim's statement may be recorded in the form of questions and answers. When the victim is of tender age and cannot describe/give details of the offensive act, any gesture, drawing made by the child victim should also be taken into consideration and documented by the concerned police officer.

- Lodge/Register the First Information Report (FIR) promptly.
- In case of sexual abuse and physical injury, the police officer shall promptly secure articles for the forensic examination.
- Clothing and all other necessary items to be examined by the forensic examiner shall be sent to him/her on a priority basis, and a report shall be collected as quickly as possible.
- The investigation officer shall ensure that the child victim should not encounter the accused. When in Court, the officer may ensure that the offender does not communicate with the victim or intimidate him/her in any way. In camera-trials or usage of screens are recommended to avoid secondary victimization and keep the victim away from the accused.
- Make sure that the Probation Officer has submitted the juvenile's Social Investigation Report immediately after the completion of the investigation.
- Collect past criminal record of a juvenile accused and produce it before the Court before the final verdict and if he/she is a first offender, inform the Court.
- Assist the Court in disposing of the bail matter on a priority basis and dealing with the juvenile accused's case within the period of six months.
- Ensure that each juvenile is housed/detained at a proper safety place: observation homes and rehabilitation centres.
- Maintain a proper record of the juveniles provided with psychological support services through the Social Welfare Officer or a Psychologist/Therapist.
- Identify cases where on completion of the trial, diversion is possible and bring this to the juvenile court's notice.
- Assist the Court and the investigation agencies in observing the provisions of laws relating to children.
- Act as a liaison officer between the police and the judiciary.
- Direct any case or trial, pending before it, be referred to the JC.53
- If disputed by any party, decide the issue of age on a priority basis. The magistrate/court may itself initiate the process of age determination by adopting appropriate methods, which may include collection and examination of the following records:
 - a. NADRA records such as Form "B," Child Registration Certificate, CNIC.
 - b. School registration certificate, school leaving certificate, school admission form, board enrolment form/card.
 - c. Permanent residence certificate, domicile.
 - d. Medical examination report.



- e. Any other pertinent document
- Maintain a proper record of children in conflict with the law (if possible, in a database specially designed for the purpose) and call for reports from the probation officer regarding the juvenile's social circumstances and educational status.
- Use and share the report with other concerned stakeholders, if needed, during investigation or trial.
- Direct the probation officer to submit a probation report in the prescribed manner.
- When deciding for the detention of a juvenile convict, write an order directing the juvenile offender to be sent to a Juvenile Rehabilitation Centre until he/she attains the age of eighteen years or until the completion of the period imprisonment.

Role of Police if Child is accused

- Immediately inform the juvenile's parents or guardian(s) and the Probation Officer about the juvenile's arrest.⁹
- The juvenile to be presented before the Magistrate within 24 hours of his arrest.
- The juvenile is to be medically examined if so, needed depending on the charges.
- The juvenile in Police custody should not be handcuffed, chained, or fettered.¹⁰
- Prepare a separate challan and present the child's custody in the Juvenile Court through the prosecutor if the co-accused is an adult.
- The juvenile should never be compelled to confess his/her guilt, and he/she should be interviewed only in a child-friendly environment or a child-friendly corner in the police station.
- A Police Officer should not detain/keep the child with an adult accused during the investigation process.
- The privacy of the juvenile must be fully respected. The concerned SHO must ensure that no harm is caused to a child in conflict with the law and protect the juvenile accused from exposure, publicity, or labelling.¹¹
- A juvenile accused should be promptly and directly informed of the charges levelled against him/her through his/her parents or legal guardian(s). In case a formal FIR is registered, then a copy of this FIR should be made available to the juvenile and/or to

⁹ Juvenile Justice system act 2018, Section 5(a)

¹⁰ Juvenile Justice system act 2018, Section 16(2)

¹¹ Juvenile Justice system act 2018, Section 13

his/her parents or guardian(s) and Probation Officer at the earliest. This will enable the juvenile to explain the circumstances which resulted in him/her coming into potential conflict with the law.¹²

- The investigation of a case involving a female shall be handed over to a lady officer, not below the rank of sub-inspector, appropriately trained to deal with child-related
- A female juvenile shall only be kept in a Juvenile Rehabilitation Centre established or certified exclusively for female inmates.
- No female juvenile accused shall, under any circumstance, be apprehended or investigated by male police officer or released on probation under the supervision of a male officer.¹³
- The Investigation Officer shall initiate an inquiry to determine the age of the juvenile offender based on:
 - a) Birth Certificate
 - b) Education Certificate
 - c) Any other pertinent document

Role of Judicial Officers

- If a Judge, after he/she has taken cognizance of any offence, finds that an accused brought before him/her is a juvenile, he/she shall immediately transfer his/her case to the Juvenile Court for further proceedings.
- The Juvenile Court to decide the case within the prescribed time limit of six months.
- An Application for extension of time may be filed before the High Court by the Judge of the Juvenile Court if the matter could not be decided within the prescribed time limit: it shall also mention reasons for such extension thereof.
- Closely monitor and supervise the investigation process while acting as an Area Magistrate.
- A Judge of a Juvenile Court, where a juvenile is involved in a bailable offence, and has not been released under section 496 of the Cr.P.C. and provided there are grounds for believing that the release of the juvenile may bring him/her in association with criminals, shall, unless he/she is sixteen years of age or, detained in a heinous offence, release the juvenile on bail, with or without sureties. He/she and shall also ensure that:

¹² Juvenile Justice system act 2018, Section 5

¹³ Juvenile Justice system act 2018, Section 17(1)



- The juvenile is kept in the custody of a suitable person; OR The juvenile’s custody is handed over to the Juvenile Rehabilitation Centre under the supervision of a probation officer; or
- Direct the police officer to trace out the juvenile’s guardian/parents and handover the custody to him/her/them; and
- The juvenile shall not, under any circumstance, be kept in police custody or prison.
- Use the services of all relevant stakeholders for quick dispensation of the juvenile accused’s justice and well-being as provided under the national/local laws and global treaties/policies ratified by the Government of Pakistan.
- Keep a copy of the SOPs of stakeholders and ensure that each actor performs his/her duties effectively.
- Release the juvenile on bail where the trial delay is not associated with any act or omission from the juvenile accused.

Role of Probation Officer

- Assist the Investigation Officer during the investigation.
- Prepare a Social Investigation Report (SIR) and maintain a proper record of the children in conflict with the law, if possible, in a database designed for the purpose.
- Ensure that probationers observe the terms and conditions of the probation order
- Submit the probationers’ conduct reports periodically before the trial court or on a date fixed by the court.
- Coordinate and assist the investigation agencies and the Trial Courts.
- Obtain information regarding the juvenile’s antecedents, family history, or any other information to assist the Court immediately after his/her arrest.
- Act as a member of the Juvenile Justice Committee and perform the following functions, namely:
 - a. Dispose of the case within one month.
 - b. Monitor observation homes and Juvenile rehabilitation centres and direct officers in charge to take measures for the Juvenile’s welfare and social reintegration under his/her supervision.

Role of Social Welfare Officer

- Assist the investigation officer during the investigation.
- The I.O. who investigates a juvenile's case shall be assisted by the Probation Officer or by the Social Welfare Officer notified by the government. He or she shall prepare a Social Investigation Report to be submitted to the Juvenile Court which shall be kept confidential by the Court.
- After releasing a child, if the court thinks that the release may bring him/her in association with criminals or expose him/her to any harm, the juvenile shall be handed over to the custody of a probation officer.¹⁴



Role of Prosecutors¹⁵

- Scrutinize the final report/challan and suggest the court separate the case of the juvenile from the case of an adult accused at the initial stage.
- If the Court is satisfied that it is in the interest of justice, the juvenile may be tried together with an adult by the Juvenile Court and request the Court to dispense with the attendance of the juvenile accused.
- Assist the Court in determining the age of the juvenile.
-

¹⁴ Juvenile Justice system act 2018, Section 7(2)

¹⁵ Juvenile Justice system act 2018, Section 6





مدارج عمل کی رہنمائی (تفتیش اور مقدمے کی شنوائی)

تفتیشی مراحل

- پہلا مرحلہ۔۔۔ عمر کا تعین
- دوسرا مرحلہ۔۔۔ شناختی عمل
- تیسرا مرحلہ۔۔۔ انحراف
- چوتھا مرحلہ۔۔۔ قانونی معاونت
- پانچواں مرحلہ۔۔۔ تحویل
- چھٹا مرحلہ۔۔۔ پولیس رپورٹ کا اندراج
- ساتواں مرحلہ۔۔۔ رہنمائی کا حصول

مقدمے کی پیش رفت

- پہلا مرحلہ۔۔۔ لیگل ایڈوکیٹ کو منٹ
- دوسرا مرحلہ۔۔۔ الزام کی تشکیل و تنظیم
- تیسرا مرحلہ۔۔۔ سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ
- چوتھا مرحلہ۔۔۔ ریکارڈ کر دو شاہد پر اسکیورٹری کو جمع کروانا
- پانچواں مرحلہ۔۔۔ ملزم کا بیان ریکارڈ کرنا
- چھٹا مرحلہ۔۔۔ دفاعی خبوتوں کا ریکارڈ
- ساتواں مرحلہ۔۔۔ فیصلہ
- آٹھواں مرحلہ۔۔۔ از سر نو معاشرتی انضمام

تفتیش کے دوران تفتیشی آفیسر کی معاونت

انویسٹیگیشن آفیسر (آئی۔ او)، جو جویناگل کیس کی تفتیش کرتا ہے، کو گورنمنٹ کی طرف سے نامزد پرائیونٹ آفیسر یا سوشل ویلفیئر آفیسر کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ وہ جویناگل کورٹ کو جمع کروانے کے لیے ایک سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کرے جسے کورٹ سینڈ رائز میں رکھے گی۔

اگر عدالت کو پتے کی رہائی کے بعد مجرموں سے رابطے یا ان سے کسی قسم کے خطرے کا احتمال ہو تو جویناگل پرائیونٹ آفیسر کی سرپرستی میں رہے گا۔

پرائیویٹ فرمائش

حتمی رپورٹ یا چالان کی چھان بین کر کے ابتدائی مراحل میں ہی جویناگل کے مقدمے کو بائبلز موموں کے مقدمے سے علیحدہ کرنے کی تجویز دے۔

اگر عدالت انصاف کے وسیع تر مفاد میں اس بات پر مطمئن ہو کہ جویناگل اور بائبلز کے مقدمے کی کارروائی جویناگل عدالت میں ہی چلے تو عدالت سے جویناگل ملزم کی حاضری سے استثناء کی درخواست کرے۔

جویناگل کی عمر کے تعین میں عدالت کی معاونت۔

جویناگل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، سیکشن 7(2)

جویناگل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، سیکشن 6

انویسٹمنٹس آفیسر نابالغ یا کم سن مجرم کی عمر کا تعین کرنے کے لیے درج ذیل بنیادوں پر کارروائی کا آغاز کرے گا

برتھ سرٹیفکیٹ

تعلیمی اسناد

دیگر متعلقہ دستاویزات

پرائیمنٹ آفیسر کی ذمہ داریاں

تفتیش کے دوران تفتیشی آفیسر کی معاونت

سوشل انویسٹمنٹس رپورٹ (ایس۔ آئی۔ آر) کی تیاری کرے اور اگر ممکن ہو تو معاملے کا ڈیٹا مینس بنا کر بیچے اور اس سے متصادم قانون کا عمل ریکارڈ محفوظ کرتا ہے۔

اس بات کو یقینی بنانا کہ پرائیمنٹ نے پرائیمنٹ آرڈرز کے تمام شرائط و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔

عدالت کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ یا مقدمے کی شنوائی سے قبل پرائیمنٹ کے طرز عمل کی رپورٹ مرحلہ وار جمع کروانا۔

ٹرائل کورٹ اور تفتیشی ایجنسیوں کی معاونت کرنا اور رابطے میں رہنا۔

جوینٹل کی حراست کے فوری بعد اس کے حالات زندگی، خاندانی تفصیلات اور دیگر متعلقہ معلومات حاصل کر کے عدالت کو مہیا کرنا۔

جوینٹل جنٹس سکیٹی کے ممبر کے طور پر درج ذیل امور انجام دے:

(ا) ایک ماہ کے اندر معاملہ (کیس) نمٹانے۔

(ب) امریکہ گنہداشت اور جوینٹل ری۔ سیٹی ایجنٹس کی نگرانی اور ان چارج آفیسرز کو جوینٹل ویلنٹیر اور معاشرتی انضمام کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کرے۔

سوشل ویلفیئر آفیسر کے فرائض

الزامات کی بابت اگر ضروری ہو تو جوینٹل کالینی معائنہ کرانے۔

پولیس کی تحویل میں جوینٹل ہسپتالوں، ہیزوں یا پابز نجیر نہیں ہونا چاہیے۔

اگر شریک ملزم بائغ ہے تو ایک ٹیلڈ وچالان تیار کرے اور پراسیکیوٹر کے ذریعے بیچ کو جوینٹل عدالت کے حوالے کرے۔

جوینٹل کو اقبال جرم کے لیے کسی صورت مجبور نہ کیا جائے اور اس کا بیان لینے کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے یا پھر پولیس اسٹیشن کا ایک گوشہ چپوں کے لیے دوستانہ بنا دیا جائے۔

تفتیشی کارروائی کے دوران جوینٹل کو حراست یا تحویل میں بائغ ملزم کے ساتھ نہ رکھا جائے۔

جوینٹل کے نجی معاملات کو پوشیدہ رکھا جائے۔ متعلقہ ایس۔ ایچ۔ او۔ اس بات کا خیال رکھے کہ قانون کے دائرے میں جوینٹل کو کوئی ضرر نہ پہنچے اور کسی بھی قسم کی پردہ دہری یا تشہیر ہونے سے جوینٹل کو محفوظ رکھے۔

والدین یا سرپرست کے ذریعے جوینٹل ملزم کو اس پر لگائے گئے تمام الزامات سے مکمل آگاہ کیا جائے۔ ایف۔ آئی۔ آر۔ کٹ جانے کی صورت میں اس کی کاپی ایس۔ ایس۔ ایس میں جوینٹل اور اس کے والدین یا سرپرست اور پرائیٹن آفیسر کو مہیا کی جائے۔ ایسا کرنا جوینٹل کو ان حالات و واقعات کی وضاحت کرنے کے قابل بنانے کا کہ جن کے سبب اس نے قانون شکنی کی ہے۔

تفتیشی کارروائی جس میں لڑکی کا معاملہ پیش نظر ہو تو ایسے معاملے کو کم سے کم سب انسپکٹر یا اس سے اعلیٰ عہدے کی خاتون آفیسر، جو بیچوں سے متعلق معاملات میں تربیت یافتہ ہو، کے سپرد کیا جائے۔

فی میل جوینٹل کو ایسے جوینٹل ری۔ میبل ایسٹن سنٹر میں رکھا جائے جو خاص طور پر لڑکیوں کے لیے مختص کیا گیا ہو۔

کسی بھی صورت میں جوینٹل ملزمہ کی گرفتاری یا تفتیش مرد پولیس آفیسر کے ذریعے نہیں ہوگی اور نہ ہی مرد پرائیٹن آفیسر کی سرپرستی میں اسے پرائیٹن پر رہا کیا جائے۔

جوینٹل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، سیکشن 5(اے)

جوینٹل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، سیکشن 16(2)

جوینٹل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، سیکشن 13

جوینٹل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، سیکشن 5

جوینٹل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، سیکشن 17(1)

جوڈیشل آفیسرز کے فرائض

اگر منصف (جج) جرم کے ادراک کے بعد، اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے سامنے پیش کردہ ملزم ایک جوڈینل (کم سن) ہے تو وہ فوراً اس معاملے کو مزید کارروائی کے لیے جوڈینل عدالت کی طرف منتقل کرے۔

جوڈینل کورٹ پر لازم ہے کہ وہ چھ ماہ کی طے کردہ مدت میں معاملہ نمٹائے۔

اگر معاملے کا فیصلہ طے کردہ مدت میں ممکن نہ ہو تو جوڈینل عدالت کا منصف (جج) ہائی کورٹ کی خدمت میں توسیع مدت کی درخواست لکھ سکتا ہے جس میں اس توسیع کی وجہ بھی بیان کرنا ہوگی۔

علاقائی مجسٹریٹ کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے ہوئے باریک بینی سے تفتیشی عمل کی نگرانی کرے۔

اگر جوڈینل قابل ضمانت جرم میں ملوث پایا گیا ہے اور سی آر۔ پی۔ سی کے سیکشن 496 کے تحت اسے ان بنیادوں پر رہا نہیں کیا گیا کہ اس کی رہائی مجرموں سے جاننے کا سبب بنے گی، جو اس کے کہ اس کی عمر ۶۱ سال ہو یا اس نے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہو، تو اسے ضمانت پر یا ضمانت کے بغیر: تیل دے جائے اور ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ

جوڈینل کو کسی اہل شخص کی سرپرستی میں رکھا جائے یا اس کی ذمہ داری جوڈینل ری۔ پی۔ بی ایٹن سٹر میں پرائیمری آفیسر کی نگرانی میں دی جائے۔ یا

پولیس آفیسر کو ہدایت کرے کہ وہ جوڈینل کے والدین یا سرپرست کا پتہ لگائے اور اسے ان کی تحویل میں دے۔ اور

جوڈینل کو کسی بھی صورت میں پولیس کی حراست یا حوالات میں نہیں رکھا جائے گا۔

حکومت پاکستان کی طرف سے تصدیق شدہ قومی یا مقامی قوانین اور عالمی معاہدے یا پالیسیوں کے تحت جوڈینل ملزم کے فوری انصاف اور بھڑی کے سدباب کے لیے تمام متعلقین اعلیٰ کی خدمات کو بروئے کار لائے۔

متعلقین اعلیٰ کے ایس۔ او۔ پی۔ کی ایک نقل اپنے پاس رکھے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر کوئی اپنے فرائض بطریق احسن انجام دے۔

اگر ساعت تاخیر کا خطرہ ہے اور اس تاخیر میں ملزم جوڈینل کا کوئی عمل دخل نہیں تو اسے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔

پولیس کے فرائض جب ملزم کم سن (بچہ یا بچی) ہو

جوڈینل کے والدین یا سرپرست کو فوراً جوڈینل کی گرفتاری کی اطلاع کرے۔

جوڈینل کو گرفتاری کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔

ترجمی بنیادوں پر چھ ماہ کے عرصے کے اندر اندر جو بنا کل طرز کی ضمانت کا معاملہ نمٹانے میں عدالت کی معاونت کرے
 یعنی بتائے کہ ہر جو بنا کل کو کسی محفوظ مقام یعنی گنبد اشقی مرکز یا مرکز بھالی میں رکھا گیا ہے۔
 سوشل ویلفیئر آفیسر اور ماہر نفسیات کی طرف سے جو بنا کل کو فراہم کردہ نفسیاتی معاونت کار پکار ڈرکھے۔
 ایسے معاملات (کیسز)، جن کی سماعت کی تکمیل پر مثبت انحراف کا امکان موجود ہو، کی نشاندہی کرے اور عدالت کی توجہ اس طرف مبذول
 کرائے۔

عدالت اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو بچوں سے متعلق تمام قوانین کی فراہمی میں معاونت کرے۔
 عدلیہ اور پولیس کے درمیان رابطے کا کام کرے۔

کوئی معاملہ (کیس) یا سماعت جو تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ سی۔ 53 کی طرف رجوع کروائے۔
 کسی بھی فریق کی طرف سے اگر تعین عمر متنازع ہو تو اس مسئلے کو ترجمی بنیادوں پر حل کرے۔ ججسٹریٹ یا عدالت از خود موزوں طریقہ کار
 اپناتے ہوئے عمر کا تعین کرنے کی کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے۔ جس کے لیے درج ذیل دستاویزات کا حصول اور جانچ ضروری ہے۔

نادار ریکارڈز جیسے کہ 'ب' فارم، پچا کلڈر جیسٹریٹ سرنٹیکٹ، قومی شناختی کارڈ۔

سکول ریکارڈز جیسٹریٹ سرنٹیکٹ، سکول چھوڑنے کا سرٹیکٹ، سکول کا داخلہ فارم، یورڈنرولمنٹ فارم۔

مستقل رہائش کی فرد ڈومیسائل

میڈیکل ایگزیمینٹ رپورٹ

دیگر متعلقہ دستاویزات

قانون کی روشنی میں بچے کا مکمل ریکارڈ محفوظ کرے (اگر ممکن ہو تو اس مقصد کے لیے تکمیل دیے گئے ڈیٹا میں محفوظ رکھے) اور پرائیوٹ
 آفیسر سے جو بنا کل کے معاشرتی حالات اور تعلیمی درجے سے متعلق رپورٹس کا مطالبہ کرے۔

سماعت اور تفتیش کے دوران رپورٹ کا استہمال کرے اور اگر ضرورت ہو تو رپورٹ دیگر متعلقین ہالا کو بھی بھجوائے۔

پرائیوٹ آفیسر کو وضع کردہ دستور کے مطابق پرائیوٹ رپورٹ کے اندر راج کی ہدایت کرے۔

جو بنا کل مجرم کی قید و بند کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک تحریری حکم نامہ جاری کرے جس میں جو بنا کل مجرم کو جو بنا کل ری۔ مڈبلی ایشن سنٹر بھیجے کی
 ہدایت کی گئی ہو جب تک کہ وہ (لاکاپلازکی) اٹھارہ سال کی عمر کو نہ پہنچے یا اس کی معاویہ قید مکمل نہ ہو جائے۔

پولیس کی ذمہ داریاں (جب مظلوم کسں ہو)

بچے سے متعلقہ معاملات پولیس کی وردی کی بجائے سادہ لباس میں ملیوس اہلکار دیکھیں۔

متاثرہ بچے کو ملزم سے دور رکھیں اور اگر ضرورت ہو تو اس کا طبی معائنہ کروائیں۔

کسی بھی صورت میں متاثرہ بچے کو رات گئے تک پولیس اسٹیشن میں نہ رکھا جائے اور اگر ضرورت پیش آئے تو بچے اور پولیس کے مابین ترجمان کا بندوبست کیا جائے۔

متاثرہ بچے کا بیان من و عن حرف بہ حرف (ورہائیم) ریکارڈ کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی زبانی ویدائی رد و بدل نہ کی جائے۔

متاثرہ بچے کا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے تفتیشی آفیسر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ متاثرہ بچہ ریکارڈنگ سے قبل کسی بھی دباؤ یا پریشانی کا شکار نہ ہو۔

متاثرہ کا بیان اس کی رہائش گاہ یا کسی بھی ایسی جگہ پر ریکارڈ کیا جاسکتا ہے جہاں وہ کسی قسم کے خوف یا دباؤ سے آزاد ہو۔

متاثرہ کا بیان سوال و جواب کی صورت میں ریکارڈ کیا جاسکتا ہے۔ اگر متاثرہ بچہ عمر کے اس حصے تک نہیں پہنچا کہ جہاں وہ جرم سے متعلق مطلوبہ تفصیلات بیان کر سکے تو متعلقہ پولیس افسر یہ لازم ہے کہ وہ بچے کے ہر تاثراتی اشارے یا بنائے ہوئے ہمہ خاکے کو بھی ملحوظ خاطر رکھے اور درج کرے۔

ابتدائی تفتیشی رپورٹ (ایف آئی آر) کا فوری اندراج کیا جائے۔

جنسی زیادتی اور جسمانی تشدد کی صورت میں پولیس آفیسر فرانزک ایگزامینیشن کے لیے تمام شواہد اکٹھے کر کے فوراً محفوظ کرے۔

لباس اور دیگر ضروری اشیاء جن کا معائنہ مقصود ہے تفتیشی بنیادوں پر فرانزک ایگزامینر کو بھجوائی جائیں اور جلد از جلد اس کی رپورٹ فرانزک سے حاصل کی جائے۔

تفتیشی آفیسر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ متاثرہ اور ملزم کا آمناسامانہ ہو۔ عدالت میں آفیسر اس بات کا خیال رکھے کہ متاثرہ اور ملزم کے درمیان کسی بھی قسم کی بات چیت نہ ہو اور نہ ہی مجرم متاثرہ بچے کو ہراساں کر سکے۔ عدالت متاثرہ کو ملزم سے دور رکھنے کے لیے، این کیمرہ ٹرانسکریپٹ اور اسکرین کا استعمال کرتے ہوئے مقدمے چلانے کی تجویز بھی دیتی ہے

یقینی بنایا جائے کہ پرائیمری آفیسر تفتیش مکمل ہوتے ہی جو وینا کل کی سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ جمع کروا چکا ہے۔

حتمی فیصلے سے پہلے جو وینا کل ملزم کی گزشتہ مجرمانہ رپورٹ حاصل کرے اور عدالت کے سامنے پیش کرے اور اگر ملزم نے پہلی مرتبہ ار حجاب جرم کیا ہے تو اس بارے عدالت کو آگاہ کرے۔

ثبوت
ملزم کا بیان
دلائل
فیصلہ
مراکز بحالی

قرائن اور ذمہ داریاں

یہ وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو دینا مکمل ملزم کو اس کے حقوق سے آگاہ کرے۔

جو دینا مکمل ملزم کو اپنے قانونی حقوق سے مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے۔ جو دینا مکمل کوٹ کی طرف سے مقررہ وکیل ملزم جو دینا مکمل کو حراست کے فوراً بعد اسے تمام دستیاب حقوق سے آگاہ کرے گا۔

جو دینا مکمل ملزم کو ریاست کے خرچے پر قانونی امداد کا حق حاصل ہے۔ اگر جو دینا مکمل ملزم کا مقدمہ قانونی طور پر پیش نہیں ہو رہا تو اس امر میں عدالت کی طرف سے ایک تجربہ کار وکیل اس کی نمائندگی کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔

جیسے ہی جو دینا مکمل ملزم گرفتار ہو تو نامزد وکیل اس بات کو یقینی بنانے کہ تفتیشی افسر جو دینا مکمل کے والدین یا سرپرست کو اس گرفتاری کے بارے آگاہ کرے۔

وکیل اس بات کی یقین دہانی کرے کہ جو دینا مکمل کو کسی صورت بائع مجرموں کی حوالات میں نہیں بلکہ مراکز نگہداشت (آبزرویشن ہومز) میں رکھا جائے گا۔

عدالت میں پیش کرتے ہوئے جو دینا مکمل کو پابز یا پھنڈیوں میں پکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔

جو دینا مکمل کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ پہلی مرتبہ جرم کا مرتکب ہوا ہے اور صحت جرم ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو بحالی کے تبادلے راستے میسر ہوں گے۔

جو دینا مکمل کو سوشل ویلفیئر آفیسر اور پرائیٹن آفیسر کا تعاون حاصل ہو گا جو اس کی ذہنی نشوونما اور معاشرتی بنیادیں اہم کردار ادا کرے گا۔

طبعاتی امتیاز کی نفی اور برابری نہ یہ ایکٹ کسی بھی قسم کے جنسی، نسلی، مذہبی اور معاشرتی رہتے یا کسی بھی دوسری سطح کے امتیاز کی مزاحمت کرتا ہے۔ یہ نظام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تمام جوینائل کے لیے یکساں سلوک اور حفاظت پر زور دیتا ہے۔

تناسب اور تخصیص: یہ ایکٹ مخصوص انفرادی ضرورت کو ابھارتا ہے اور کم سن مجرم کے حالات زندگی اور جرم کی شدت کے درمیان تناسب کی جانچ کرتا ہے۔ یہ تھانوں، حقوق اور سخت اقدامات سے گریز کرتا ہے۔

محرومی آزادی کا کم سے کم احتمال: یہ ایکٹ اس بات کا خصوصی خیال رکھتا ہے کہ جوینائلز کو حویل میں لینے کی امکانی صورت کم سے کم ہو۔ نیز اسیری کی بجائے دوسری تعمیر ساز سرگرمیوں اور معاشرتی سطح پر قائم مراکز بحالی کے توسط سے قوت بخش انصاف فراہم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

تحفظات اور رازداری کا پاس: یہ ایکٹ تو اتنے سے عمل انصاف کے دوران کم سن مجرموں کے تحفظات اور رازداری کو یقینی بناتا ہے۔ یہ ایکٹ ان کی ذاتی معلومات اور ریکارڈ ظاہر نہ کرنے پر سختی سے کاربند ہے، جبراس کے کہ اس کا مقصد قانونی کارروائی یا جوینائل کے مفادات مخصوصا حصول ہو۔

جے۔جے۔ ایس۔ اے کی کارروائی کے مدارج

گر قاری

عمر کا تعین

والدین اور پرائیٹن آفیسر تک معلومات کی فراہمی

مراکز نگہداشت

مفت قانونی معاونت

جوینائل عدالت

تفتیش اور معاشرتی تفتیشی رپورٹ

چالان (173 رپورٹ)

اقدامات کی تنظیم و تشکیل

میں لینے کے فوراً بعد کم سن یا نابالغ مجرم کو محض عارضی طور پر تفتیش کے لیے رکھا جائے گا اور ایسا صرف جو ویناٹل کورٹ کی طرف سے ریمانڈ کی منظوری پر ہی ہو گا۔ تمام کم سن یا نابالغ مجرموں کو پولیس اسٹیشنز و قید خانوں اور دیگر محروموں کے حوالے سے الگ رکھا جائے گا۔

مقاصد

بھالی اور از سر نو انضمام: اس ایکٹ کا مقصد معاملات میں مثبت مداخلت اور موزوں نظام تعاون کے ذریعے کم سن یا نابالغ مجرموں کی بھالی اور معاشرے میں از سر نو انضمام میں سہولت پیدا کرنا ہے۔

جو ویناٹل کے حقوق کا تحفظ: یہ جو ویناٹل کے حقوق جیسا کہ انصاف پر مبنی مقدمے کی سماعت، جسمانی اور نفسیاتی ضرر سے حفاظت، تعلیم تک رسائی، حفظانِ صحت اور معاشرتی خدمات وغیرہ کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے۔

تکھار جرم کی روک تھام: یہ ایکٹ جرم کے اسباب اور ممکنہ خطرات کی آگاہی حاصل کرتے ہوئے کم سن یا نابالغ مجرموں کی طرف سے تکھار جرم کی روک تھام کے لیے مستعد رہتا ہے۔

بھالی انصاف اور احتساب: یہ احتساب کی متوازن راہ کو فروغ دیتے ہوئے، انصاف کی بھالی پر زور دیتا ہے جس سے متاثرہ شخص کے نقصان کے ازالے کے ساتھ ساتھ مجرم اور معاشرے میں مذاکرات کی فضا قائم ہوتی ہے۔

بنیادی اصول

کم سن یا نابالغ کے مفاد کی بالادستی: یہ ایکٹ جو ویناٹل جنس سسٹم سے متعلق تمام کاروائیوں اور فیصلوں میں ابتدائی غور و فکر کی حیثیت سے کم سن یا نابالغ کے مفادات کو جگہ دیتا ہے۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کم سن کی خیر و عافیت، حفاظت اور نشوونما اس ایکٹ کی اولین ترجیح ہے۔

جیسا کہ سیکشن ۲(اے) میں واضح کیا گیا ہے کہ کم سن سے متعلق کوئی بھی فیصلہ درج ذیل مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیا جائے گا۔

بنیادی حقوق اور ضروریات

شناخت

معاشرتی عافیت

جذبات کی نشوونما اور جسمانی و نفسیاتی ارتقاء

- ۳۔ سندھ چائلڈ میرج ریٹریمنٹ ایکٹ، 2013ء سیکشن ۲ (اے)
- ۴۔ دی پریوینشن آف ٹریڈینگ اینڈ سٹراٹیکٹ، 2008ء سیکشن ۱ (اے)
- ۵۔ دی نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف دی چائلڈ ایکٹ، 2017ء سیکشن ۲ (بی)
- ۶۔ دی پنجاب ڈیٹسٹیوٹ اینڈ نیگیٹو چلڈرن ایکٹ، 2004ء سیکشن ۳ (۱) (بی)
- ۷۔ جوینائل جنس سسٹم ایکٹ، 2008ء سیکشن ۲ (بی)
- ۸۔ جوینائل جنس سسٹم ایکٹ، 2008ء سیکشن ۲ (۱) (ج)

ہے۔ ہے۔ ایس۔ اے کے قابل فور نکات درج ذیل ہیں
کم سن یا نابالغ کی عمر کا تعین۔

ارٹکب جرم پر ذمہ داری عائد ہونے کی زیادہ سے زیادہ کم عمر کا تعین
معمولی ہر جانے یا کم سزا کے ذریعے معاملے سے جاں خلاصی
جوینائل جنس کمیٹی (ہے ہے سی) کا قیام
جوینائل ری ڈیلی اینشن سنٹر (ہے آرسی) کا انتظام

ہے۔ ہے۔ ایس۔ اے 2008ء بچوں کے لیے بہتر اور مستحکم فوجداری انصاف فراہم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نابالغ مجرموں کے معاشرتی
انضمام کے لیے آئندہ قابل عمل شقیں بناتا ہے۔

ہے۔ ہے۔ ایس۔ اے کے مطابق

ہر کم سن یا نابالغ مجرم کو ریاست کے خرچے پر قانونی معاونت کا حق حاصل ہوگا۔ اسے (لاٹکا یا لڑکی) ہر صورت اس کے حقوق سے آگاہی
دی جائے گی اور چھبیس گھنٹے کے اندر اندر اس (لاٹکا یا لڑکی) کے لیے قانونی تعاون کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پولیس کے گرفتار کر کے حراست

چائلڈ میریجرس ٹریٹمنٹ ایکٹ، 1929ء اس قانون کے مطابق، 'کم سن یا نابالغ' ہونے کی حد لڑکے کے لیے 18 سال جبکہ لڑکی کے لیے 16 سال ہے۔

سعدہ چائلڈ میریجرس ٹریٹمنٹ ایکٹ، 2013ء مندرجہ ذیل 'کم سن یا نابالغ' کی وضاحت میں لڑکے یا لڑکی میں فرق سے بالاتر ہو کر 18 سال سے کم عمر کی شادی پر قید خن لگائی ہے۔

دی پریونشن آف ٹریٹمنٹ اینڈ پرنسپلز ایکٹ، 2018ء: 'کم سن یا نابالغ' سے مراد 18 سال سے کم عمر ہے۔

دی پینل کمیشن آن دی رائٹس آف دی رائٹس آف دی چائلڈ ایکٹ، 2017ء: کوئی بھی فرد جو 18 سال سے کم ہو

دی پنجاب ڈیٹنیشن آف اینڈ نیگیٹو چائلڈرن ایکٹ، 2004ء: دی پنجاب ڈیٹنیشن آف اینڈ نیگیٹو چائلڈرن ایکٹ، 2004ء 'کم سن یا نابالغ' سے مراد ایک عام فرد جو 18 سال کی عمر کو نہیں پہنچا۔

جے۔ جے۔ ایس۔ اے کا اجمالی جائزہ

2008ء میں، پارلیمان نے جوینٹل جینس سسٹم ایکٹ، 2008ء (جے۔ جے۔ ایس۔ اے) نافذ کیا جس نے جے۔ جے۔ ایس۔ اے 2000ء کو منسوخ کر دیا۔ یہ قانون کی اصلاح ہے، جس کا مقصد ریاست کے استحکام کو یقینی بنانا، نابالغ مجرموں کے قانونی تحفظ کی خاطر خاص شکتیں متعارف کروانا اور اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ نیا متعارف کردہ قانون، سابقہ انتظامی اور متنازعہ قانون کی جگہ لینے کا اہل ہے۔ جیسا کہ جے۔ جے۔ ایس۔ اے کے آرٹیکل 23 اور 25 میں درج ہے کہ جوینٹل جینس سسٹم آرڈیننس (جے جے ایس او) 2000ء ان سب معاملات میں رجوع کرنے سے قاصر تھا۔

اس ایکٹ کے مقاصد میں، 'کم سن یا نابالغ' دو فرودے جو 18 سال کی عمر کو نہیں پہنچا۔

جوینٹل سے مراد وہ 'کم سن یا نابالغ' ہے جو بعد ازاں حکم جرم، نابالغ مجرم سے مختلف طریقوں سے سزا کا حوالہ ہے۔

(1)۔ دی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ، 1890ء سیکشن 3

2۔ چائلڈ میریجرس ٹریٹمنٹ ایکٹ، 1929ء، سیکشن 2 (اے)

دستور العمل کا خاکہ

یہ دستور العمل ہے۔ ہے۔ ایس۔ اے۔ 2018ء کے عمل اور اک کو آسان بنانے کے لیے مختلف گوشوں میں منقسم ہے۔ ہے۔ ایس۔ اے کا اعلیٰ جائزہ یہ گو شوارہ اس (ہے ہے ایس اے) ایکٹ کے تعارف، مقاصد اور کلیدی اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ نیز کم سن مجرموں کے تحفظ، حقوق کی ادائیگی اور ان کے لیے مختص نظام انصاف کے پیچھے کار فرما لکری کی وضاحت کرتا ہے۔

فرائض اور ذمہ داریاں: یہ حصہ ہر متعلقہ شعبے کی ذمہ داریاں اور مخصوص فرائض وضع کرتا ہے۔ یہ پرائیٹن، بیروں، پراسیکیوشن، ججڈیشل، پولیس، سوشل ویلفیئر اور جیل کے باہمی تعاون پر زور دیتے ہوئے ان جملہ شعبہ جات سے مشکلات ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔

مدارج عمل کی درجہ بندی: یہ گوشہ جو بنائے گئے کے نظام انصاف کے طریق عمل جس میں حراست، تفتیش، از سر نو انضمام، خوات، سماعت اور بحالی شامل ہے، کی درجہ بندی درجہ بندی فرہم کرتا ہے۔ نیز ان معاملات میں ہر مرحلے پر موجود قانونی ضروریات، حدود اوقات کار اور فیصلہ سازی کی وضاحت کرتا ہے۔

ترقیاتی طریقہ کار

یہ ہدایت نامہ عملی شرکت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے نظریات اور تجربات کے استخراج، معاملات پر تبادلہ خیال اور گروہی سرگرمیوں پر کاربند ہے۔ یہ متعلقین اعلیٰ کے مابین باہمی سکھ، علمی مشاورت اور سرگرم شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنے متعلقہ شعبہ جات کی مخصوص ضروریات کے مطابق مواد میں ترمیم اور جرح و تعدیل پر یہ دستور العمل ہر تربیت کار کی معاونت کرتا ہے۔

”کم سن یا نابالغ“ کی تعریف

☆ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اصطلاح ”کم سن یا نابالغ“ کی واضح تعریف نہیں کی گئی البتہ ”کم سن یا نابالغ“ سے متعلق چند شیعوں سے رجوع کیا گیا ہے مثلاً،

☆ آرٹیکل 11ء کے مطابق چودہ سال سے کم عمر بچوں کی مزدوری کرنے پر ممانعت ہے۔

☆ آرٹیکل 25ء اے، 16ء سال تک کی عمر کے بچوں کو آزادی اور بنیادی تعلیم کا حق دیتا ہے۔

”کم سن یا نابالغ“ قانون پاکستان کی رو سے

قانون پاکستان میں درج ذیل نکات (ایکٹ) ”کم سن یا نابالغ“ کی وضاحت کرتے ہیں۔

دی گارڈینز اینڈ ولڈز ایکٹ 1890ء، ”مانسٹر“ سے مراد وہ فرد ہے جو سمجھوتہ ایکٹ، 1875ء کی ذیل میں بطور نابالغ تسلیم نہیں کیا جاتا۔

سیاق و سباق

یہ دستور العمل پنجاب کے متعلقہ شعبہ جات کو جو ریٹائرمنٹ جٹس سسٹم ایکٹ 2018ء کی جامع تقسیم اور واضح ابلاغ فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد پنجاب کے جملہ محکمہ جات کے ساتھ اس امر میں تعاون کرنا ہے کہ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھتے ہوئے موثر انداز میں عمل پیرا ہو سکیں تاکہ جو ریٹائرمنٹ جٹس سسٹم کے نفاذ کو یقینی بنایا جاسکے۔ یہ ہدایت نامہ دراصل جو ریٹائرمنٹ جٹس سسٹم ایکٹ 2018ء کے منصوبے، جس کی مالی اعانت پوناٹنڈ اسٹیشن اسٹیشن آف ٹیس (یو۔ ایس۔ آئی۔ پی) کی جانب سے کی گئی ہے، پر تجزیاتی نگاہ ڈالنے ہوئے اس کی اطلاقی استعداد میں اضافے کے لیے اہم اقدام ہے۔

مقصد

آپ کی متعلقین اعلیٰ: اس ہدایتی دستاویز کا مقصد ہے۔ ہے۔ ایس۔ ایس۔ کی دفعات اور اصول و ضوابط کی مکمل سمجھ بوجھ فراہم کرنا ہے۔ یہ ہدایت نامہ تمام متعلقین کو اپنی تفویض کردہ فرائض کی موثر انجام دہی کے لیے بنیادی معلومات مہیا کرتا ہے۔

بلا فصل نفاذ کا فروغ: یہ دستور العمل کلیدی رہنمائی اور معیاری معلومات بہم پہنچاتے ہوئے متعلقین اعلیٰ میں باہمی انسلاک پیدا کرتا ہے۔

ادارہ باہمی کا فروغ: جو ریٹائرمنٹ جٹس سسٹم کا موثر مطلق شعبہ جات میں ہم آہنگی کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا یہ ہدایت نامہ مشترکہ ذمہ داریاں وضع کرتے ہوئے بین شعبہ جاتی تعاون کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔

متعلقہ شعبہ جات: یہ ہدایت نامہ درج ذیل شعبہ جات اور ان سے منسلک لوگوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے

پرائیمری اینڈ سیول ڈیپارٹمنٹ: پرائیمری آفیسرز، کانسٹریبلز اور ایسے پیشہ ور حضرات جو کم سن مجرموں کی نگرانی اور بحالی پر مامور ہیں۔ سیول آفیسرز اور عملہ جو نابالغ مجرموں کی رہائی اور معاشرے میں ان کے از سر نو انعام کا ذمہ دار ہے۔

پرائیمری اینڈ سیول ڈیپارٹمنٹ: کم سن مجرموں سے متعلق معاملات پر مامور ماہرین قانون اور پرائیمری سیکورٹرز۔

جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ: نابالغ مجرموں کے معاملات پر فیصلہ صادر کرنے والے منصفین، ججسٹریٹ اور دیگر عدالتی عملہ۔

پولیس ڈیپارٹمنٹ: نابالغ مجرمین کی حراست، تفتیش اور سرزنش کرنے والے پولیس آفیسرز، تفتیشی اور متعلقہ عملہ۔

شعبہ حمل خانہ جات: کم سن مجرموں کی دیکھ بھال کے لیے اسلامی سہولیات پر کاربند عملہ، حکام شعبہ جیل اور منتقلین جیل۔

شعبہ فلاح و بہبود: کم سن مجرموں کی تفتیشی رپورٹ بنانے میں پرائیمری آفیسرز کے معاون سوشل ویلفیئر آفیسرز۔

جووینا نل جسٹس سسٹم ایکٹ

2018ء

تریمی دستور العمل

مؤلفین: عارفین نعیم بیگ

ڈاکٹر رابعہ چودھری





FORMAN CHRISTIAN COLLEGE
(A CHARTERED UNIVERSITY)



CENTRE FOR PUBLIC POLICY
AND GOVERNANCE

E – 017 & 018, E-Building
Ferozpur Road, Lahore – 54600, Pakistan.
Phone: +92-42-99231581 - 88 Ext.: 377, 388
Fax: +92-42-99230703
Email: cppg@fccollege.edu.pk